

کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے کیلئے سخت پابندیاں

24 نومبر، 2020ء میڈیا انکوائریز

البرٹا کی حکومت پبلک ہیلتھ کی ہنگامی حالت کا اعلان کر رہی ہے اور صحت کے نظام کی حفاظت اور کووڈ-19 کیسوں کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو کم کرنے کیلئے جارحانہ اقدامات کر رہی ہے۔

نئی پابندیاں اور اضافی نفاذ کمیونٹیوں میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں کمی لائے گا، ہسپتالوں کی حفاظت کرے گا، اسکول اور کاروباری اداروں کو جتنا ممکن ہو سکا زیادہ سے زیادہ گھلے رکھے گا، اور غیر محفوظ البرٹنز کی بہتر طور پر حفاظت کرے گا۔

صوبے میں اس وقت کووڈ-19 کے 13,349 فعال کیس ہیں۔ ہسپتالوں میں بڑھتے ہوئے داخلوں اور انتہائی نگہداشت یونٹوں میں داخلوں کی وجہ سے، نئی پابندیوں کی ضرورت ہے۔

"زندگیوں اور ذریعہ معاش دونوں کے تحفظ کیلئے اور کووڈ-19 کے خط منحنی کو واپس نیچے لانے کیلئے ہم مضبوط، ابدائی نئے اقدامات کر رہے ہیں۔ آج ہم نے پبلک ہیلتھ ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے، جو البرٹنز کی صحتوں اور ہمارے صحت کی نگہداشت کے نظام کی حفاظت کیلئے بھرپور کارروائی ہے۔ ان اقدامات کے بغیر، ہمیں جلد ہی ہزاروں سرجریوں اور صحت کی دیگر خدمات کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ البرٹنز کو غیر محفوظ لوگوں کی حفاظت کیلئے مل کر کام کرنا ہوگا۔"

جیسن کینی، پریمیئر (Jason Kenney, Premier)

"زیادہ تر البرٹنز نے 10 دن پہلے متعارف کروائے گئے صحت کے ابدائی اقدامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، تاہم، ان کوششوں نے کووڈ-19 کی افزائش میں کافی حد تک کمی ظاہر نہیں کی۔ کیسوں میں، ہسپتالوں میں داخلے اور آئی سی یو داخلوں میں اضافہ جاری ہے۔ ہم ایک نازک وقت میں ہیں۔ اس وقت مزید کارروائی کر کے، ہم اس وائرس کو کم کر سکتے ہیں، اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے صحت کی نگہداشت کے نظام میں جواب دینے اور زیادہ کاروباروں کے بند ہونے کو روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔"

ٹائلر شینڈرو (Tyler Shandro)، وزیر صحت

"کووڈ-19 کے کیسوں کی شرح نمو تشویشناک ہے۔ یہاں تک کہ نئے اقدامات کے باوجود بھی، اعلان اور اثر کے درمیان پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، اضافی صحت کے نظام کے اقدامات جیسے کہ فوری سرجریوں کو عارضی طور پر منسوخ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہسپتال کووڈ-19 سے تعلق رکھنے والی بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تمام البرٹنز کو ان

متعلقہ معلومات

البرٹنز کیلئے کووڈ-19 کی معلومات

کووڈ-19 ری لانچ اسٹینس میپ

کووڈ-19 پبلک ہیلتھ کے اقدامات اور رہنما

خطوط

ملٹی میڈیا

نیوز کانفرنس دیکھیں

میڈیا انکوائریز

کرسٹین مایٹ (Christine Myatt)

780-446-2179

ڈپٹی ڈائریکٹر (Deputy Director)

کمیونیکیشنز/پریس سیکریٹری، آفس آف

دی پریمیئر

اضافی اقدامات کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہئے؛ یہ وائرس انتہائی متعدی ہے۔ صرف اکٹھے مل کر کام کرنے سے ہی ہم ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے ہیں، پھیلاؤ کو کم کر سکتے اور اپنے صحت کے نظام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔"

ڈاکٹر ڈینا ہنشا (Dr. Deena Hinshaw)، چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ

پبلک ہیلتھ کے نئے اقدامات

لازمی پابندیوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جرمانے ہو سکتے ہیں فی جرم ٹکٹ کا نتیجہ مبلغ 1,000 ڈالر اور عدالتوں کے ذریعے مبلغ 100,000 ڈالر کی صورت میں نکل سکتا ہے۔

صوبے بھر میں اقدامات

عوامی اور نجی اجتماعات

یہ فوری طور پر مؤثر ہے، صوبہ بھر میں سماجی اجتماعات پر لازمی پابندیاں نافذ ہیں۔ یہ اقدامات اگلے نوٹس تک زیر عمل رہیں گے اور ان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

- کسی بھی ماحول میں چار دیواری میں سماجی اجتماعات کی اجازت نہیں ہے، بمع کام کی جگہیں۔
- چار دیواری سے باہر سماجی اجتماعات زیادہ سے زیادہ 10 افراد تک محدود ہیں۔
- تجہیز و تکفین کی خدمات اور شادی کی تقریبات میں پبلک ہیلتھ کے تمام رہنمائی کے اصولوں پر لازمی طور پر عمل کیا جانا چاہئے اور اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10 افراد تک محدود ہے۔ استقبال کی اجازت نہیں ہے۔

اسکول

تمام اسکولوں میں، 30 نومبر کو گریڈز 7-12 کے طلباء کو گھروں پر سیکھنے (at-home learning) کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، ذاتی طور پر کلاسوں (in-person classes) کا قبل از وقت خاتمہ۔

- ابتدائی بچپن کی خدمات اور گریڈز K-6 کے طلباء 18 دسمبر تک ذاتی طور پر سیکھنے میں ہی رہیں گے۔
- تمام طلباء سردیوں کی چھٹیوں کے بعد گھر میں سیکھنے پر واپس آجائیں گے اور 11 جنوری، 2021ء کو ذاتی طور پر سیکھنا شروع کریں گے۔
- یہ اقدامات لازمی ہیں۔

باقی تعلیمی سال کیلئے ڈپلومہ امتحانات اختیاری ہیں۔ طلباء اور ان کے اہل خانہ اس بات کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ آیا امتحان دیں یا اپریل، جون اور اگست 2021ء کے امتحانات سیشنوں کیلئے استثنیٰ وصول کریں۔

بہتر حیثیت کے تحت علاقوں کیلئے اقدامات

فوری طور پر مؤثر، بہتر حیثیت کے تحت علاقوں میں عبادت گاہوں، کاروباروں اور خدمات پر لازمی پابندیاں نافذ العمل ہیں۔ یہ اقدامات اگلے نوٹس تک نافذ العمل رہیں گے۔

عبادت کی جگہیں

- عبادت کی جگہیں فی خدمت میں زیادہ سے زیادہ معمول کی حاضری کے ایک تہائی کی حاضری تک محدود ہیں۔
- گھرانوں کے افراد کے درمیان جسمانی فاصلہ اور ماسک پہننا ضروری ہے۔
- عقیدہ پر مبنی لیڈروں کو خدمات آن لائن پر منتقل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

- عقیدہ کے گروہوں کے اجلاس ذاتی طور پر (In-person) جاری رہ سکتے ہیں، لیکن انہیں جسمانی فاصلے کو لازمی طور پر برقرار رکھنا ہوگا اور پبلک ہیلتھ کے اقدامات پر عمل کرنا لازمی ہے۔

کاروبار اور خدمات

27 نومبر سے، کاروبار اور خدمات کی پابندیاں تین اقسام کے تحت آتی ہیں: ذاتی طور پر کاروبار کیلئے بند، پابندیوں کے ساتھ کھلے، اور صرف اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کھلے۔ اقسام کے لحاظ سے اثرات یہاں دستیاب ہیں: alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx

یہ اقدامات تین ہفتوں تک برقرار رہیں گے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو انہیں بڑھا دیا جائے گا۔

البرٹا کے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اپنے ذاتی طور پر دوروں کو خوردہ فروشی کے مقامات تک محدود رکھیں، مقامی طور پر خریداری کریں اور کرب سائیڈ پک اپ (curbside pickup)، ڈلیوری اور آن لائن سروسز استعمال کریں۔

کیلگری، ایڈمنٹن اور ارد گرد کی کمیونٹیوں کیلئے مخصوص اقدامات

لازمی ماسک کی ضروریات

فوری طور پر مؤثر، ایڈمنٹن، کیلگری اور ارد گرد کے علاقوں میں، چار دیواری میں کام کی جگہوں کیلئے ماسک پہننے کا ایک نیا لازمی تقاضا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا مقام شامل ہے جہاں ملازمین موجود ہوں، اور اس کا اطلاق وژٹرز، بمع ڈلیوری اہلکار، اور ملازمین یا ٹھیکیداروں پر ہوتا ہے۔

یہ اقدام اگلے نوٹس تک جاری رہے گا۔

تمام موجودہ رہنمائی اور قانونی احکامات سب علاقوں میں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ البرٹا ہیلتھ، اے ایچ ایس اور مقامی میونسپلٹیاں صوبے بھر میں پھیلاؤ کی قریبی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔

فوری حقائق

- نئے اقدامات کا ایک مکمل مجموعی تجزیہ [یہاں](#) مل سکتا ہے۔
- البرٹا میں 13,349 فعال کیسز اور 35,695 شفا یاب شدہ کیسز ہیں۔
- کووڈ-19 کی وجہ سے ہسپتالوں میں 348 افراد داخل ہیں، بشمول 66 انتہائی نگہداشت میں ہیں۔
- کووڈ-19 سے اموات کی کل تعداد 492 ہے۔
- قانونی طور پر، تمام البرٹنز جب بیمار ہوں یا ان میں علامات موجود ہوں تو انہیں لازمی طور پر جسمانی فاصلے پر اور الگ تھلگ رہنا چاہئے۔
- اچھی حفظان صحت آپ کا بہترین تحفظ ہے: کم سے کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں، اپنے چہرے کو چھونے سے پرہیز کریں، اپنی کہنی یا آستین میں کھانسیں یا چھینکیں، اور ٹشو پیپر کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔